
ذیابیطس کی ادویات دینے کا فارم فر اہم کنندہ کے لیے ادویات آرڈر کرنے کا فارم| تعلیمی سال 20-2025 برائے مہربائی تمام DMAFs کو 8945/8932 - 347-346 پر فیکس کریں

اسکول کا دفتر صحت	
	Hoalth

لڑکا 🗌 لڑکی wsis:				. ,	ظور ہوج <u>ان</u> ے کے بعد کیا ج	تحریر کرده آرڈرز کا اطلاق جمع کروا دینے اور منا
						طالب علم کا آخری نام:
					پته:	ا سكول كا ATSDBN / نام:
HEALTH CARE PRACTITIONER COMPLETES BELOW [F	Please see 'Provider Gu	uidelines for DM. Section A: D	<u>Diagnosis</u>			
A1. Diagnosis Diabetes Mellitus □ Type 1 □ Type 2 □ Other:	Dv Data	, ,	A2. Recent A Date /		Result:	(%)
Diabetes Mellitus 🗆 Type T 🗆 Type Z 🗀 Other	Dx Date _	/	_ Date/_		Result	(%)
	\$	SECTION B: Em	ergency Orders			
B1. Severe Hypoglycemia ADMINISTER GLUCAGON AND CALL 911			CALL 91	1 IF POSITIV		idosis (DKA) OMITING, UNABLE TO TAKE PO, s, OR BREATHING CHANGES
Glucagon GVOKE Baqsimi	Zegalogue	Т	est ketones if any		ng: If ketones	small or trace, give water, re-test
□ 1 mg SC/IM □ 1 mg SC/IM □ 3 mg Intrans	•	45	- vomiting	_	ketones &	bG in 2 or hrs
□ 0.5 mg SC/IM □ 0.5 mg SC/IM	May repeat in		- fever <u>></u> 100.5 F		16 14	and the second second second
Char DDN	PRN		- bG > mg			moderate or large, give water, call
Give PRN: unconscious, unresponsive, seizure, or inabili Unknown. Turn onto left side to prevent aspiration and ca			☐ FIRST <i>OR</i> time that day,			sulin correction dose if ≥ 2 hrs or ce last rapid acting insulin
chosen, school staff will use ONE form of available gluca			ame mar day,		□ NO GY	. •
OFOTION Of Change Manifeston		OF OTION D	Oldin Land (If its			of sult is assumed as a subsult
SECTION C: Glucose Monitoring		SECTION D:	D2. Insulin			efault is nurse dependent) nger sticks, glucometer and/or CGM use,
C1. Glucose C2. Continuous Glucose	Monitor Use	D.1 Glucose	Calculation 8			and insulin administration only nurses or
Monitoring Times (Must complete Section	on G)	Monitoring	Administratio	<u>n</u> sup	ervised/independent	students may calculate/administer insulin
□ PRN □ Use CGM readings for g	•				•	se or trained staff must perform
☐ Breakfast ☐ Use CGM readings for i	•			-		perform with adult supervision
□ Lunch For CGMs to be used for □ Snack monitoring and/or insuli	•				•	arries supplies & self-administers EDICATION ADMINISTRATION: I attest
☐ Gym must be FDA approved f					K INDEL ENDENT IIII	EDIOATION ADMINIOTRATION: Tuttest
☐ Dismissal and used within the limit	ts of the					
☐ No bG monitoring manufacturer's protocol		Prov	rider Initials			
E1. Hypoglycemia (Provide additional hypoglycemia ins E1a. Oral Hypoglycemia Treatment □ For bG < 70 mg/dl or < mg/dl, give 15 g or PRN and □Breakfast □Lunch □Snack □Gym □Dis	tructions in Section I: O _ g rapid carbs at □ smissal	other Orders) □ For bG < □ PRN □Brea	Monitoring Parar _ mg/dl, give kfast □Lunch □\$	_ g rapid carbs Snack □Gym	□Dismissal	15 g rapid carbs = 4 glucose tabs = 1 glucose gel tube = 4 oz juice
Recheck bG in 15 or min until bG > 70 mg/dl or E1b. Pre-Gym Hypoglycemia Orders For bG < mg/dl, no gym For bG < mg/dl, treat hypoglycemia then give u For bG < mg/dl, give uncovered snack*	 <u>E</u> incovered snack*	E1c. Pre-Dismis ☐ For bG < snack before	dismissed	<u>ia Orders</u> ooglycemia Pf	mg/di RN, and give g d	*Snacks provided by staff will carb be between 15-25 g carbs unless otherwise specified in
E2. Hyperglycemia □ For bG > mg/dl pre-gym, □ no gym and □ ch			_ mg/di, treat nyp	ooglycemia PF	RN, call parent to pick	•
☐ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if			s of ketones, for k			s up Section I: Other Orders
For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if	> 2 hrs or hrs sind	SECTION F: In	s of ketones, for k		eters, see Section B2)	bG "HI" reading = 500 mg/dl
3 1 37 , 37	> 2 hrs or hrs sind	SECTION F: I	s of ketones, for k ng insulin nsulin Orders		eters, see Section B2)	Section I: Other Orders bG "HI" reading = 500 mg/dl
For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if	≥ 2 hrs or hrs sine F5. Insulin Calculat F5a. Correction Do	SECTION F: Intion Methods Se Using:	s of ketones, for k ng insulin nsulin Orders	etone parame	eters, see Section B2) F6. Insul Times wil F6a. Tar	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am - 4pm if not specified rget bG
F1. Insulin Name	> 2 hrs or hrs sind	SECTION F: Intion Methods se Using: Using: Its	s of ketones, for k ng insulin nsulin Orders	etone parame	eters, see Section B2) F6. Insul Times wil F6a. Tar	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios ll be 7am - 4pm if not specified
F1. Insulin Name By No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog	≥ 2 hrs or hrs sind F5. Insulin Calculat F5a. Correction Do: F5b. Carb Coverage	SECTION F: II sion Methods se Using: Using: I:C for Meals:	s of ketones, for king insulin nsulin Orders - □ Sliding Scale □ Sliding Scale □	etone parame	eters, see Section B2) F6. Insul Times wil F6a. Tar	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am - 4pm if not specified rget bG
☐ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name ☐ No insulin in school	≥ 2 hrs or hrs sind F5. Insulin Calculat F5a. Correction Do: F5b. Carb Coverage	SECTION F: II sion Methods se Using: Using: I:C for Meals:	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Uliding Scale Uliding Scale	etone parame	F6. Insul Times wil	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am - 4pm if not specified rget bG
F1. Insulin Name No insulin in school May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method	F5. Insulin Calculat F5a. Correction Do: F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose	SECTION F: In tion Methods se Using: Using: It is for Meals: Breakfast e	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Usliding Scale Usliding Scale Usliding Scale Usliding Scale	etone parame	F6. Insul Times wil F6a. Tar	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG g/dl from time to
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Doe F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose	SECTION F: In tion Methods se Using: Using: It is to Methods se Using: It is to Methods se Using: It is to Meals:	s of ketones, for k ng insulin nsulin Orders Usliding Scale Usliding Scale Meal Lunch	etone parame	F6. Insul Times wil F6a. Tar	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG g/dl from time to
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions	F5. Insulin Calculat F5a. Correction Do: F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose	SECTION F: In tion Methods se Using: Using: It is for Meals: Breakfast e	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Usliding Scale Usliding Scale Usliding Scale Usliding Scale	etone parame	F6. Insul F6a. Tar m	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG g/dl from time to
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) *If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage	SECTION F: In tion Methods se Using: Breakfast e and correction of and correction of a cor	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch Lunch doses are given a	etone parame Fixed Dose Snack	F6. Insul Times will F6a. Tar m F6b. Insul	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG rig/dl from time to rig/dl from time to sulin Sensitivity Factor (ISF)
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders	F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dos F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF to Meals: Breakfast e Breakfast e and correction of e will be added w	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch Lunch doses are given a when bG > target a	etone parame Fixed Dose Snack t the same and > 2 hrs or	F6. Insul Times will F6a. Tar m F6b. Insul	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am - 4pm if not specified reget bG g/dl from time to ng/dl from time to sulin Sensitivity Factor (ISF)
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) *If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form	F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dos F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF to Meals: Breakfast e Breakfast e and correction of e will be added w	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch Lunch doses are given a	etone parame Fixed Dose Snack t the same and > 2 hrs or	F6. Insul Times will F6a. Tar m F6b. Insul 1 unit dec	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified rget bG g/dl from time to sulin Sensitivity Factor (ISF) creases bG by: ng/dl from time to
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump — basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dos F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to	SECTION F: In SE	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch Lunch J doses are given a when bG > target a in unless otherwis	etone parame Fixed Dose Snack t the same and ≥ 2 hrs or se specified	F6. Insul Times will F6a. Tar m ———————————————————————————————————	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) *If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to If bG> mg/s	SECTION F: Inition Methods se Using: Breakfast Break	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch Lunch Adoses are given a when bG > target a lin unless otherwis	etone parame Fixed Dose Snack t the same and ≥ 2 hrs or se specified	F6. Insu Times wil F6a. Tarm F6b. Insu 1 unit dec	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios libe 7am – 4pm if not specified reget bG reget bG reget bG regidl from time to regulation Sensitivity Factor (ISF) creases bG by: regidl from time to
□ For bG > mg/dl PRN, give insulin correction if F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump — basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dos F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF se	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch doses are given a when bG > target a lin unless otherwistin Administration dose pre-meal a	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified n and carb	F6. Insu Times wil F6a. Tarm F6b. Insu 1 unit dec	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min prior to	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last respectively. F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF se	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch doses are given a when bG > target a lin unless otherwistin Administration dose pre-meal a	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified n and carb	F6. Insultance of the section B2) F6. Insultance will F6a. Tar mr F6b. Insultance mr 1 unit decomposition mr F6c. Insultance mr F6c. Insultance mr	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios libe 7am – 4pm if not specified reget bG reget bG reget bG regidl from time to regulation Sensitivity Factor (ISF) creases bG by: regidl from time to
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min after exercise	≥ 2 hrs or hrs sine F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dos F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me Give insulin after:	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF to Meals: ISF to	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Soliding Scale Sliding Scale Meal Lunch doses are given a then bG > target a in unless otherwise in dose pre-meal a Lunch Lunch Slin Administration of the pre-meal a Lunch	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified nand carb	F6. Insultring with F6a. Tar m F6b. Insultring with F6b. Insultring m Time m F6b. Insultring m F6c. Insultring m F6c. Insultring m Time 1 unit dec	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG reget bG reg/dl from time to reglin Sensitivity Factor (ISF) creases bG by: reg/dl from time to
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min prior to exercise until 120 min or min after exercise F4. Concern for Pump Failure/Pump Dislodgement	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last respectively. F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF to Meals: ISF to	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Lunch doses are given a when bG > target a lin unless otherwistin Administration dose pre-meal a	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified nand carb	F6. Insultring with F6a. Tar m F6b. Insultring with F6b. Insultring m Time m F6b. Insultring m F6c. Insultring m F6c. Insultring m Time 1 unit dec	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min after exercise	≥ 2 hrs or hrs sine F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dos F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me Give insulin after:	SECTION F: In SE	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Sliding Scale Lunch Sulding Scale Lunch Sulding Scale Lunch Sulding Scale Lunch Sulding Scale S	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified nand carb k	F6. Insultation of the section B2) F6. Insultation of the section B2) F6a. Tar m F6b. Insultation of the section B2) 1 unit december of the section B2) F6c. Insultation of the section B2)	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG reget bG reg/dl from time to reglin Sensitivity Factor (ISF) creases bG by: reg/dl from time to
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) *If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min prior to exercise until 120 min or min after exercise F4. Concern for Pump Failure/Pump Dislodgement □ For bG > mg/dl that has not decreased in hrs after correction, consider pump failure and notify parents	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last re F5d. Exceptions to □ If bG> mg/c coverage after me □ Give insulin after: Carb Coverage using	SECTION F: In SE	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Sliding Scale Lunch Shad starget a in unless otherwistin Administration dose pre-meal a Lunch Lunch Shad	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified nand carb k	F6. Insultance Section B2) F6. Insultance will F6a. Tar market f6b. Insultance market f6c. Insultance market f6c. Insultance f6c. Insultance market f6c. Insult	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG rig/dl from time to rig/dl from time to reases bG by: rig/dl from time to
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) *If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min prior to exercise until 120 min or min after exercise F4. Concern for Pump Failure/Pump Dislodgement □ For bG > mg/dl that has not decreased in hrs after correction, consider pump failure and notify parents □ For suspected pump failure/dislodgement, SUSPEND	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me Give insulin after: Carb Coverage usine # q carb in meal = X to I:C	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF se	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Sliding Scale Sliding Scale Meal Lunch doses are given a hen bG > target a in unless otherwisin unless otherwisin dose pre-meal a Lunch Snac	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified n and carb k	F6. Insultance Section B2) F6. Insultance will F6a. Tar market f6b. Insultance market f6c. Insultance market f6c. Insultance f6c. Insultance market f6c. Insult	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified rget bG g/dl from time to sulin Sensitivity Factor (ISF) creases bG by: ng/dl from time to ng/dl from time to sulin:Carb Ratio (I:C) to OR Breakfast t per g carbs to OR Lunch
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) *If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min prior to exercise until 120 min or min after exercise F4. Concern for Pump Failure/Pump Dislodgement □ For bG > mg/dl that has not decreased in hrs after correction, consider pump failure and notify parents	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me Give insulin after: Carb Coverage usin # g carb in meal = X to	SECTION F: In tion Methods se Using: ISF to Methods se Using: ISF to Meals: ISF to Meals	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Soliding Scale Sliding Scale Sliding Scale Lunch doses are given a when bG > target a lin unless otherwise in dose pre-meal a lunch Correction using the started of	etone parame Fixed Dose Snack the same and ≥ 2 hrs or se specified nand carb k SF units insulin inge/pen, or	F6. Insultance Section B2) F6. Insultance will F6a. Tar mr F6b. Insultance mr 1 unit december 1 unit Time 1 uni	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG rig/dl from time to rig/dl from time to reases bG by: rig/dl from time to
F1. Insulin Name □ No insulin in school * May substitute Novolog with Admelog/Humalog F2. Insulin Delivery Method □ Syringe/Pen □ Smart Pen - use pen suggestions □ Pump (Brand) * If left blank, will use syringe/pen *For iLet, must complete iLet Pump Orders Form F3. Insulin Pump Orders □ Student on FDA approved hybrid closed loop pump - basal rate variable per pump □ Follow pump recommendations for bolus doses □ Suspend/disconnect pump for hypoglycemia not responding to treatment for min □ Suspend/disconnect pump for gym □ Activity Mode: Start 60 min or min prior to exercise until 120 min or min after exercise F4. Concern for Pump Failure/Pump Dislodgement □ For bG > mg/dl that has not decreased in hrs after correction, consider pump failure and notify parents □ For suspected pump failure/dislodgement, SUSPEND pump and give rapid acting insulin by syringe/pen	≥ 2 hrs or hrs since F5. Insulin Calculat F5a. Correction Dose F5b. Carb Coverage F5c. Insulin Dosing Insulin Dose Carb Coverage Dose Correction Dose When carb coverage time, correction dose hrs since last r F5d. Exceptions to If bG> mg/c coverage after me Give insulin after: Carb Coverage usin # g carb in meal = X to I:C Round DOWN insu	SECTION F: In tion Methods se Using: Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Cand correction of the pre-Food Insulution of	s of ketones, for king insulin nsulin Orders Soliding Scale Sliding Scale Sliding Scale Lunch Lunch Soliding Scale Lunch Lunch Soliding Scale Soliding Scale Lunch Soliding Scale	etone parame Fixed Dose Snack t the same and ≥ 2 hrs or se specified n and carb k SF units insulin inge/pen, or marks unless DOWN to	F6. Insultance Section B2) F6. Insultance with F6a. Tar mr F6b. Insultance mr F6c. Insultance mr F6c. Insultance mr Time mr 1 unitance mr	bG "HI" reading = 500 mg/dl or mg/dl or mg/dl lin Dose Calculation Ratios Il be 7am – 4pm if not specified reget bG reget bC r



			تاريخِ پيدائش:		پہلا نام:		الب علم كا آخرى نام:
Do NOT overlap ranges (e dose will be given. You mu	.g., enter 0-100, 101-200, ist provide a range from 0 in Section E2: Hyperglyce	in Section I: Other Orders) etc.). If ranges overlap, the to "high" bG, which is 500 mmia. Use pre-treatment bG	ng/dl	F8. Fixed Dos	d) sing for Carb Coverage sing method in Section F5a units for breakfast units for lunch units for snack	: Correction Dose an	d for carb coverage ADD:
F7a. Correction Dose bG (mg/dl) Units Zero - 0	F7b. Carb Coverage F bG (mg/dl) Units Zero - 0	PLUS Correction Dose	ring (CGM) Order	F9. Alternate ☐ Round insu ☐ For half unit F10. Long-Ac ☐ Give long-a Name:	Rounding Instructions lin dosing to nearest whole pen/syringe, round insulin do ting Insulin cting insulin at school unitsOR pre-lunch insulin may be given at the	osing to nearest half un	nit: 0.25-0.74u rounds to 0.5u
and in accordance with neason to doubt the sensor	glucose monitoring and nanufacturer's instruction (i.e. for readings	/or insulin dosing, devices ns. For CGM used for insul numbers). For sG < 70mg/c	s must be FDA ap in dosing, finger st	proved for use ick bG will be do	and age and used within ne when symptoms don't n	the limits of the ma natch the CGM readin	ngs or if there is some
CGM Reading sG < 60 mg/dl	Arrows Any arrows	Treat hypoglycemia	se < 80 mg/dl instea per bG hypoglyce	mia plan. Reche	for grid action plan	0 /	
sG 60-69 mg/dl sG 60-69 mg/dl sG ≥ 70 mg/dl	$\downarrow, \downarrow\downarrow, \searrow \text{ or } \rightarrow$ $\uparrow, \uparrow\uparrow, \text{ or } \nearrow$ Any arrows		t hypoglycemia pe	r bG hypoglycen	ck in 15-20 min. If sG still < nia plan. If asymptomatic, r		
$sG \le 120 \text{ mg/dl pre-gym o}$ $sG \ge 250 \text{ mg/dl}$	or recess ↓,↓↓ Any arrows		ed carbs. If gym or rders for treatment	recess is immed	iately after lunch, subtract 'ng.	l5 g of carbs from lur	nch carb calculation.
Parent(s)/Guardian(s) (MU ecommendations. Taking udgement.	ST GIVE NAME),	SECTION DUNE, the nurse will determine	ION H: Parental In , may p ne the insulin dose	rovide the nurse	with information relevant to	o insulin dosing, inclu provider <u>and</u> in keet	uding dosing oing with nursing
□ Nurse may adjust calculat nursing judgment MUST COMPLETE: Healtl	h care provider can be rea	units based on parental	rs at () _	☐ Nurse ma	ay adjust calculated dose up l sed on parental input and i If the paren	nursing judgement.	oy % of the prescribed
	SECTION I: Other	Orders		Medication	SECTION J: Home Med Dose		requency Time
		SEC ment? □ Yes □ No [Pleas le pump failure and/or back		ork State Educat	ion laws prohibit nurses fro	m managing non-FD	A approved devices. For
Health Care Provide		ng this form, I certify that	I have discussed	these orders w	ith the parent(s)/guardiar	ı(s).	
(PLEASE PRINT) Last Name:	.	First Name (Print):			Signature:	Date [.]	
•	MD □ DO □ N				ga.a.a		
Address:		City/State:	:ZI	P:	Email address: _		
NVC Licence # or N			Tali				



بر ائے مہرباتی تمام DMAFs کو 8945/8932- 396-347 پر فیکس کریں	
HOCIC CAL TO KELL TO THE SECOND STATE OF THE S	ult e ti Kulou tit
پہلا نام: تاریخِ پیدائش: جنس 🗋 لڑکا 🗋 لڑکی OSIS#:	طالب علم كا آخرى نام:
بته:بته:برو: برو: ضلع:گریدً/کلاس: والدین اور سرپرست: پڑھ کر مکمل کریں اور دستخط کریں۔ ذیل میں دستخط کر کے میں اس پر متفق ہموں که:	سكول كا ATSDBN / نام:
والدين اور مرپرست. پرهد در معمل درين اور دهنگه درين دين مين دهنگه درج مين اس پر منطق بهون ده.	
ر رضا مند ہوں کہ نرس/اسکول میں قائم صحت کے مرکز (SBHC) کا فراہم کنندہ میرے بچے کی تجویز کردہ دوا دے، اور نرس/تربیت یافته عمله/SBHC فراہم کنندہ ان کی کی مقدار چیک کرے اور ان کی خون کی شکر میں کمی کا علاج کرے جو میرے بچے کے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے فراہم کنندہ کی ہدایات اور مہارت کی سطح کے مطابق ہو۔	خون کی شکر َ
کول کے احاطے میں یا اسکول کے دوروں کے دوران کیے جا سکتے ہیں۔ معامل کا اسکار کی سنگر کی کے ایک اور اسکار کیا ہے اور اسکار کی کے اساس کی ایک اس میں اسکار کیا ہے۔ اسکار کی اس	
	 میں آگاہ ہوں
جھے اسکول کی نرس/SBHC فراہم کنندہ کو اپنے بچے کی دوا، سنیکس، آلات اور متعلقه اشیاء فراہم کرنا ہوں گی اور مجھے ضرورت کے مطابق ان ادویات، سنیکس، آلات اور	- م
تعلقه اشیاء کو بدلنا بھی ہوگا۔ اسکول کا دفترِ صحت (OSH) میر ہے بچ کے خون میں شوگر کی مقدار کی جانچ کرنے اور انسولین دینے کے لیے محفوظ نِشتر (سیفٹی لینسِٹ) اور	
يگر محفوظ سِوئی کے آلات اور سِامان استعمال کرنا تجويز کرتا ہے۔	٥
میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں که میرا بچه اپنی دوا/متعلقه اشیاء اسکول میں اور دوروں کے دوران اپنے 504 اجلاس میں بیان کردہ طریقے سے لے کر جائے اور محفوظ کر ہے۔	
مام تجویز کردہ اور 'کاؤنٹرپر دستیاب' دوا جو میں اسکول کو فراہم کروں گا، وہ نئی، مہربند، اور اصل بوتل یا ڈے میں ہونی چاہیے۔ میں اسکول کو اپنے بچ کے اسکول کے دنوں کے مہر میں اسکار کیا ہے۔	
کے دوران استعمال کے لیے موجودہ اور غیر معیاد شدہ دوا فراہم کروں گا۔ نیاز مال کے ان اور ایک شاعر اور اور ایک اور ایک اور ایک میں اور	<u>_</u>
- نسخے والی دوا کے ڈیے یا بوتل پر اصل فارمیسی کا لیبل لگا ہونا لازی ہے۔ لیبل پر شامل ہونا ضروری ہے: 1) میرے بچ کا نام، 2) فارمیسی کا نام اور فون نمبر، 3)	
میرے بچے کے معالج کا نام، 4) تاریخ، 5) دوبارہ بھر نے (refill) کی تعداد، 6) دواکا نام، 7) خوراک 8) دواکب لینی ہے، 9) دواکیسے لی جائے اور 10) کوئی دیگر دربارت	
ہمہوے۔ مجھے اپنے بچے کی دوا یا طبی نگہداشت فراہم کنندہ کی ہدایات میں کسی بھی تبدیلی کے بار ے میں فورا ً اسکول کی نرس/SBHC فراہم کنندہ کو اطلاع دینا ہوگی۔	" -
۔ چھے پھے ہے کہ کہ میں کے درج ہالا صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اس فارم میں دی گئی معلومات کی درستگی پر انحصار کر رہے ہیں۔ OSI اور اس کے وہ نمائندے جو میرے بچے کو درج بالا صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اس فارم میں دی گئی معلومات کی درستگی پر انحصار کر رہے ہیں۔	
ں ادویات کو دینے کا فارم (MAF) پر دستخط کرکے میں OSH کو اپنے بچے کی ذیابیطس سے متعلقہ صحتی نگہداشت خدمات فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ان خدمات میں	ـ ار
ک کلینیکل معائنه یا OSH کے طبی نگہداشت فراہم کنندگان یا نرس کے ذریعے جسمانی معائنه شامل ہو سکتا ہے، لیکن یه ان تک محدود نہیں۔	
اس MAF میں دی گئی دواکی ہدایت میر ے بچے کے تعلیمی سال کے اختتام پر، جس میں گرمیوں کا سیشن بھی شامل ہو سکتا ہے، یا جب میں اسکول کی نرس/SBHC فراہم	
نندہ کو نیا MAF دوں (جو بھی پہلے ہو)، ختم ہو جائے گی۔ جب یه دوا کا آرڈر ختم ہو جائے گا، تو میں اپنے بچے کے طبی نگہداشت کنندہ کی جانب سے تحریر کردہ 🔥 MAF کو	
نے بچے کی اسکول نرس/SBHC فراہم کنندہ کو دوں گا۔	
OSI اور محکمه تعلیم (DOE) اس بات کو یقینی بناتے ہیں که میرا بچه محفوظ طرِیقے سے اپنی خوِن کی شکر کی مقدار کی جانچ کر سکے۔	
، فارم میری رضامندی اور اس فارم میں بیان کی گئی ذیابیطس سے متعلق خدمات کی درخواست کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسے براہ راست OSH کو بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ OSH کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	
ں انب سے درخواست کردہ خدمات فراہم کیے جانے کا معاہدہ نہیں ہے۔ "اگر OSH ان خدمات کی فراہمی کا فیصلہ کرتا ہے، تو میر ے بچے کو طالب علم سہولت منصو بے کی انتخاب سے درخواست کردہ خدمات فراہم کیے جانے کا معاہدہ نہیں ہے۔ "اگر OSH ان خدمات کی فراہمی کا فیصلہ کرتا ہے، تو میر ے بچے کو طالب علم سہولت منصو بے کی	?
ہرورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس منصوبے کو اسکول مکمل کر ہے گا۔ معمد کے دکوروںالیا ملاحک فید سے 2011 میں میں کے والے بالتہ دوارا ملاحی سے ات کے ئیسلسے میا مارت ماریا کی کتاب	
نے بچے کی دیکھے بھال یا علاج کی غرض سے، OSH می <u>ر ے بچے</u> کی طبی حالت، دوا، یا علاج <u>سے</u> متعلق کوئی بھی ایسی معلومات حاصل کر سکتا ہے جسے وہ ضروری سمجھتا ہو۔ OSI یه معلومات کسی بھی طبی نگہداشت فراہم کنندگان، نرس، یا فارماسسٹ سے حاصل کر سکتا ہے جنہوں نے میر ے بچے کو صحت کی خدمات فراہم کی ہوں۔	- اپ H

نوٹ: اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے که آپ اسکول تفریحی دورے کے دن اور اسکول سے باہر سرگرمیوں کے لیے اپنے بچ کے لیے دوا اور آلات بھیجیں۔

ذیابیطس کی ادویات دینے کا فارم (DMAF) کے بارے میں والدین کے سوالات کے لیے OSH ہاٹ لائن: 4933-786-786-718

خود دواکھانے اور / یا طریقه کار پر عمل کرنے کے لیے (صرف خودمختار طلباء کے لیے):

- میں تصدیق کرتا ہوں که میرا بچه مکمل طور پر تربیت یافته ہے اور وہ خود سے دوا لے سکتا اور / یا مطلوبه طبی طریقه کار انجام دے سکتا ہے۔ میں اپنے بچے کو اس فارم پر دی گئی دوائیوں کو اسکول اور دوروں پرلانے، محفوظ کرنے اور خود سے لینے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں مذکورہ بالا کے مطابق اپنے بچے کو یه دوا بوتلوں یا ڈبوں میں دینے کا ذمه دار ہوں۔ میں اپنے بچے کی دوا کے استعمال کی نگرانی کرنے اور اسکول میں اس دوا کے استعمال کے تمام نتائج کا بھی خود ذمه دار ہوں۔ اسکول کی نرس یا SBHC فراہم کنندگان میرے بچے کی دوا اپنے ساتھ رکھنے اور خود دینے کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے۔ میں اس پر بھی آمادہ ہوں که اسکول کو دوا ایک واضح لیبل لگ ہوئے ڈبے یا بوتل میں "اضافی ذخیرہ" (بیک آپ) دوں گا۔
- میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں که اگر میرا بچه عارضی طور پر دوا اپنے ساتھ رکھنے اور لینے کے قابل نه ہو تو اسکول کی نرس یا تربیت یافته اسکول کا عمله میر مے بچے کو گلوکاگون دے، اگر یه ان کے معالج کی طرف سے تجویز کیا گیا ہو۔

	والدين / سرپرست ذيل ميں دستخط	ن دستخط کرین	
جلى حروف ميں والدين/ سرپرست كا نام:	ولدین/ سرپرست کے دستخط حصه A اور B کے لیے	ر B کے لیے:	تاريخ:
والدين / سربرست كا پته:	والدین سرپرست کا ای میل:		
بمنگامی صورت میں رابطه نمبر بہترین رابطه ٹیلی فون نمبر:	گهر کا فون نمبر:	سيل فون نمبر:	
ہنگا ہی حالات میں مت	نبادل راب <u>ط</u> کا نام:	طالب علم سے رشته:	رابطه فون نمبر:



Diabetes Medication Administration Form

Provider Medication Order Form | School Year 2025-26 Please fax all DMAFs to 347-396-8932/8945

For Office of School Health (OSH) Use Only

OSIS Number:	
Received by: Name	Date:/
Reviewed by: Name	Date:/
□504 □IEP □Other	Referred to School 504 Coordinator ☐ Yes ☐ No
Services provided by:	OSH Public Health Advisor (for supervised students only)
☐ School Based Health Center	
Signature and Title (RN OR SMD):	
Date School Notified & Form Sent to DOE Liaison/	
Revisions as per OSH contact with prescribing health care practitioner	
☐ Clarified ☐ Modified	
Notes	